

بچوں کے لئے بائبل  
تحائف

الوداع فرعون



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Janie Forest  
Alastair Paterson

کے مطابق: Lyn Doerksen

ترجمہ کردہ: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

کی طرف سے تیار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2023 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،  
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔




فرعون اوس  
نارو نار۔

خداین اوس موسیٰ ہس اٹھ  
تس حکم سوزمٹ۔ اسرائیلی  
غلامن مصر منز نیرنہ دنہ  
بایٹھ۔ ٹمی گور تہ نامنظور۔  
"ہیو یمن سخت کام" فرعونن  
دیوت غلامن ہندین زٹھین  
حکم۔ وونی اس اسرائیلی  
لوکن پیٹھ زیادہ سختی۔



"پن چار گریو پانے سانہ طرفہ میلیو نہ وونی کینہہ۔ مگر سیر  
چھیو برابر تڑے تراونہ بیڑ تراوان اسیو۔" یم اسے فرعون سنڈی  
نوی حکم۔



كأَمِ بَيْنَهُ وَالْيَوْمِ وَالْأَيَّامِ كَيْثَرًا  
تَمَنِّي غُلَامًا مِّن قَوْمِ عَدُوِّهِ  
سِيرِينَ يَدُودَ تَعْدَادٍ مُّكْمَلًا  
كُرْتَهُ كَأَسَىٰ جَمْعٍ كَرِيمًا

وقتے بیٹان اوس نہ۔





يمو لكو كهول يمن نوين  
مصيبتن بند راه موسي  
هس ته هارونس - موسي  
هن لب اكه جامه پنه  
عبادته خاطره - "اے  
خداوند!" تمی ديوت  
آلو - "ژمے نے بچاوی

تھکھے پنی یم بند یتہ"  
"بہ چھس خدا وند ته به  
انه هو توی ضرور اتہ  
بچاوتہ -"  
خداین وون -



امہ پتہ سوزی  
خداوندن موسیٰ تہ  
ہارون بیہ فرعونس  
نش۔ یلہ امی طاقت  
ور بادشاہن یمن خدا  
سندین بدن خدایہ  
سند طرفہ کانہہ



نشانی ہاونہ باپتہ  
وون۔ ہارونن عاصہ  
بنیو پھکارون سُرپہ۔





"میانین جودو گارن دیو ناد"  
فرعون گرزیو۔ ییلہ مصری  
جود گارو پنی عاصہ زمینہ  
پیٹھ تراوی تم تہ بنیہ سُریہ۔  
مگر ہارون سندی سُریہن نی  
یم ساری سُریہ ننگلاوتہ۔  
مگر فرعونن دیوت نہ یمن  
اسرائیلین توتہ نیرنہ۔





دویمہ دوپہ سمکھی موسیٰ تہ ہارون اُمس فراعونس دریاو  
بٹھس پیٹھ۔ ییلہ ہارونن پنن عاصہ کوڈ خدایہ سند یژھنہ  
سپد اب خونے خون۔



گاڈ مویہ تہ لوکو  
بیوک نہ یہ آب  
چیتھے۔



مگر فرعون سُنْدِ دِلِ گو امہ سیتی وارے سخت۔ سہ دپہ نہ  
یمن اسرائیلی ین مصر منز ہرگز نیرنہ۔



موسىٰ بن وون پيہ فرعونس يمن خدایہ  
سندن بدن نیرنک اجازت دِنہ باپتہ۔

فرعونن کورس توتہ  
انکار۔ خداین کور

يمن (مصری پین) پیٹہ  
بیاکہ طوونہ نازل۔

سورے مصر او مینہ  
موند جو سستی ولنہ۔

پرتہ گر پرتہ کٹہ  
حطا کہ مندلین تہ

بانن منز تہ وژہ یمہ  
مینہ موند جہ۔






میانہ باپتھ گریو دعا ز  
خدا دیہ اسہ نجاتھ  
یمو مینہ موند جو  
نشہ۔ فرعونن کورکھ  
زار پار "بہ دمو تیلہ  
تہندین یمن لکن یتہ  
نیرنہ" مگر ییلہ یم مینہ  
موند جہ درایہ فرعونن  
بدلوو پنن وعدہ۔  
سہ تراو نہ ہرگز  
غلامن یلہ۔



امہ پتہ سوزی خداین لچہ بڈی نکی تہ زاولی ژر یمن زوو تہ  
ونان چہ۔ پرتہ کانہ انسان کیو حیوان اوس یہنزو ٹوپو سستی  
کشان تہ پان زلان۔ مگر فرعونن مون نہ خدایہ سندا کینہ۔





امہ پتہ  
سوزی



خداین مچھ تہ مہی تمن  
پٹھ۔ خداین تراو پیمار تہندین  
چون چارواین مارنہ باپہ،  
خداین کھاجکھ پاکہ بستہ۔  
لوکن ووت رنگہ رنگہ تکلیف۔  
مگر توتہ رود فرعون  
خدایس بُتھی پھیور۔



پاکہ بستو پتہ سوزکھی  
خدائین ہالو۔ یمو ہلوو  
کھیگہ پرتہ کانہہ  
سبزی زمینہ ہنز۔




امہ پتہ سوز کہ خداین ترین دوہن  
ہند انہ گوٹ۔ مگر یہ نلہ وٹھ ہیو  
فرعون تراو نہ اسرائیلین توتہ۔





"به سوزگه وونی  
پیاگه تاون" خداین  
گری خبردار۔


"نصف راز مرن  
ساری نوزاد انسانن  
ہندی تہ تہ حیوانن  
ہندی تہ۔" خداین  
وون اسرائیلین ز  
یودوے تم کٹہ سُنْد  
رتہ برکرین مُتتہ  
تھاون تیلہ بچن  
تہندی نوزاد شری۔





نصف راز وژھ سارسے مصرس  
منز ہول ہالے - موتن اوئس دب  
ترومت - پریتھ گرس منز اوس  
کمس کم اکھ نفر مودمت -





"دفع گڑھیو" فرعونن وون موسیٰ  
ہس گڑھو۔ "کریو پینس خداوند  
سنز بندگی۔" خدایہ سندی بند  
درامے جلدی مصرکیو بنو نبر۔





خداین وون موسیٰ ہس کالج  
راتھ ژیتس تھاونہ موکھ۔ تکیاز خدایہ  
سُند فرشتہ اوس سارنی اسرائیلی گرن پھورمٹ۔  
فرعونس تہ تسندین لوکن پٹھ حملہ کورمٹ۔





مصرس منز مصیبتکی ژور ہتہ  
ترہہ 430 وری گزارتہ اسی وونی خدایہ  
سندی بند آزاد۔ خدا رود دویس اکھ اوبر لنگ  
ہیو تہ راتس نارِ مشالی ہیو تہند وتہ ہاوک۔





مگر فرعونسَ اسی وونہ  
اسرائیلین خلاف پنی  
کوڈر اتی۔ تھی مشروو بیہ  
خدا بیہ بدلیوس دماغ۔  
پن فوج سو مبراوتہ لاریو  
سہ یمن اسرائیلی غلامن  
ولی ولی پتہ تہ رٹنی بالہ پلن  
تہ سوڈرس درمیان اکس  
مقامس پٹہ۔



"خداوند ووٽھ تہندِ بدلہ جنگس" موسیٰ  
ہن وون (اسرائیلی لوکین)۔ موسیٰ ووت  
ابس تام تہ زیٹھراون پنی نر۔



واریاہ بڈی معجز  
آئی بارسس۔ خدائین  
مٹراو ابہ منزی یہند  
بایتھ وتھ۔ لوکو لووب  
دریاوس محفوظ  
پاٹھی تار۔





فرعون سُنَد فوج ووت گُربن پٹھ دوران دوران بحر  
احمرس منز۔ "وونى كياه رٹووكه اسي يم سارى"  
س، پهو سونچ۔ مگر خداين كور ابس بييه ميول۔



تہ فرعون سُنَد طاقتور فوج نیو زنتہ دریاون نینگلتہ۔  
فرعونس توگ پانے زانن ز اسرائیلین ہند خداوند  
چہ سارنہ ہند حاکمِ اعلیٰ۔



# الوداع فرعون

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

ہجرت 4 - 15

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:  
پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

